

14 مئی 2018

سٹی آف برامپٹن میں وکٹوریہ ڈے 2018

برامپٹن، آن - وکٹوریہ ڈے کے موقع پر برامپٹن سٹی ہال بروز پیر، مورخہ 21 مئی کو بند رہے گا۔ شہر کی بہت سی خدمات دستیاب نہیں ہوں گی یا معمول سے کم سطح پر کام کریں گی۔ اس دوران شہری خود تشریف لا کر شادی کے لائسنس اور پرمٹس کے لیے درخواست نہیں دے سکیں گے یا اپنا جرمانہ نہیں بھر سکیں گے۔ آن لائن آپشنز کے لیے، برائے مہربانی ملاحظہ کریں www.brampton.ca

کئی خدمات معمول کے مطابق کام کرنا جاری رکھیں گی، بشمول: فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور بائی لاء انفورسمنٹ۔ سٹی آف برامپٹن کی سروسز میں ردوبدل اور بندش کے متعلق مزید معلومات کے لیے، برائے مہربانی 311 پر کال کریں یا ملاحظہ کریں www.brampton.ca

آمدو رفت کی سروسز

وکٹوریہ ڈے ویکینڈ کے لیے برامپٹن ٹرانزٹ کا شیڈول درج ذیل ہو گا:

- جمعہ، 18 مئی: ویک ڈے کی ریگولر سروس
- ہفتہ، 19 مئی: ہفتہ کے دن کی ریگولر سروس
- اتوار، 20 مئی: اتوار/چھٹی کی سروس
- پیر، 21 مئی: اتوار/چھٹی کی سروس

وکٹوریہ ڈے کے موقع پر ٹرانزٹ اسٹور مورخہ 21 مئی کو بند رہیں گے۔

راستوں اور شیڈول کی معلومات کے لیے 905.874.2999 پر کال کریں یا www.bramptontransit.com ملاحظہ کریں اور آنے والی اگلی بس کے متعلق براہ راست معلومات کے لیے نیکسٹ رائیڈ (Next Ride) استعمال کریں۔ کسی بھی سمارٹ فون یا دیگر موبائل ڈیوائس پر اگلی بس کے متعلق چلتے پھرتے nextride.brampton.ca پر معلومات حاصل کریں

تفریح

وکٹوریہ ڈے ویکینڈ کے موقع پر زیادہ تر تفریحی سہولیات کھلی رہیں گی۔ پروگرام کے شیڈول کی تصدیق کے لیے، برائے مہربانی اپنے مقامی تفریحی مرکز میں فون کریں، 311 پر کال کریں یا www.brampton.ca ملاحظہ فرمائیں۔

فائر ورکس کی سیفٹی

وکٹوریہ ڈے کے موقع پر سٹی آف برامپٹن کی جانب سے آتش بازی کے کسی قسم کے مظاہروں کا اہتمام نہیں کیا گیا۔

پچھلے سال برامپٹن نے سامان آتش بازی کے فروخت کنندگان کے لیے، لائسنس کے حصول سے پہلے، ایک سالانہ لازمی کورس متعارف کروایا تھا۔ وکٹوریہ ڈے پر برامپٹن میں سامان آتش بازی کے منظور شدہ فروخت کنندگان کی ایک فہرست سٹی کی ویب سائٹ پر شائع کی جائے گی۔

وکٹوریہ ڈے سال کے ان چار منظور شدہ مواقع میں سے ایک ہے، جن کے دوران ذاتی املاک پر پرمٹ کے بغیر چھوٹی حد والی آتش بازی کی اجازت ہے۔ چھوٹی حد والی آتش بازیاں وہ ہوتی ہیں، جنہیں جب پھوڑا جائے، تو وہ تین میٹر (10 فٹ) سے کم دوری تک جاتی ہیں (مثلاً فائونٹینز، ویلرز، گراؤنڈ سپنرز، سپارکلرز)۔ راکٹ کی قسم کی دیگر تمام آتش بازیاں برامپٹن میں ممنوع ہیں۔ سٹی رہائشیوں کو یاد دہانی کرواتا ہے کہ گلیوں، سائیڈ واکس، سٹی پارکس کے اندر یا میونسپل یا اسکول کی املاک پر آتش بازیاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

- اپنی املاک پر چھوٹی حد والی آتش بازیوں کے استعمال میں، آپ کو ان حفاظتی تدابیر پر لازمی عمل کرنا چاہیے:
- آپ کے پاس پانی کا ایک برتن یا ہوز لائین موجود ہونی چاہیے، جو آتش بازیوں کو بجھانے کے لیے پانی سے بھرا ہو۔
 - آپ کو کبھی بھی اپنے ہاتھ میں سپارکلر کے علاوہ کوئی دیگر آتش بازی جلانی یا پکڑنی نہیں چاہیے۔
 - سپارکلرز کو استعمال کرنے کے بعد، پھینکنے سے پہلے پوری طرح ٹھنڈے ہونے کے لیے پانی کے کسی برتن میں ڈال دیں
 - آتش بازیوں کو پھینکنے سے پہلے انہیں پوری طرح ٹھنڈا ہونے دیں

برامپٹن لائبریری

وکتوریہ ڈے کے موقع پر برامپٹن کی لائبریریوں کی تمام برانچیں (سوک سنٹر میں چنگواکوسی، سائرنل کلارک، فور کارنرز، گور میڈوز، ماؤنٹ پلیزینٹ ویلج اور ساؤتھ فلیچرز) بند رہیں گی:

مزید معلومات کے لیے 905.793.4636 یا 311 پر کال کریں یا www.bramptonlibrary.ca ملاحظہ فرمائیں۔

-30-

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوارٹینٹر

سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654